

کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ برائے ڈیپازٹ اکاؤنٹس

دورانیہ: جنوری - جون، 2026

تاریخ:

برانچ کا نام اور کوڈ:

شہر:

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعہ پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

یہ معلومات مندرجہ بالا تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ ریٹ سال میں دو مرتبہ کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ فیس/چارجز کی جدید تفصیلات کیلئے، آپ ہماری ویب سائٹ یا اپنی قریبی ایم سی بی بینک برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔

تفصیلات	ایم سی بی ٹائیپ سیونگ اکاؤنٹ
کرنسی	پاکستانی روپے
اکاؤنٹ مینٹیننس فیس (ٹیکس سمیت)	قابل اطلاق نہیں
کیا منافع اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے	ہاں
متوقع منافع ریٹ (فیصد)	بینک کی ریٹ شیٹ کے مطابق
ادائیگی منافع کا دورانیہ	سہ ماہی
مثال	اگر ہر 1000 روپے پر انڈیکسڈ منافع کا تناسب 15% ہے تو کسٹمر سال میں سہ ماہی 37.5 روپے منافع کما سکتا ہے
قبل از وقت/جلد رقم نکلوانے/واپسی کی فیس	قابل اطلاق نہیں
سروس چارجز: اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ بینک کا مکمل چارجز کا شیڈول آپ اپنی قریبی ایم سی بی بینک برانچ وزٹ کر کے یا بینک کی کارپوریٹ ویب سائٹ www.mcb.com.pk میں اسے 'کونیکٹ لکس' سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔	
سروسز	طریقے
کیش ٹرانزیکشن	شہر کے باہر
	شہر کے اندر
	دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے نکلوانے پر (ٹیکس سمیت)
	بینک کسٹمر کے لیے سی ڈی ایم چارجز
	دیگر کے لیے سی ڈی ایم چارجز
	بینک کے صارفین
ایس ایم ایس الرٹس	اے ڈی سی/ڈیجیٹل
	دیگر ٹرانزیکشنز کیلئے
	زیرو
	35 روپے
	قابل اطلاق نہیں
	قابل اطلاق نہیں
	زیرو
	زیرو
	250 روپے ماہانہ

کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ برائے ڈیپازٹ اکاؤنٹس

ڈیپٹ کارڈز	پے پاک کلاسک	اجراء: زیرو سالانہ: 2,000 روپے
	پے پاک گولڈ	اجراء: زیرو سالانہ: 2,300 روپے
	ماسٹر کارڈ کلاسک	3,000 روپے
	ویزا اسلور	3,000 روپے
	ویزا گولڈ لوکل	4,000 روپے
	ویزا اناباب	اجراء: 2,000 روپے سالانہ: 4,000 روپے
	ویزا پلانٹیم	14,000 روپے
	ویزا اسکنچر	10,000 روپے سہ ماہی*
چیک بک	اجراء	مفت (1/ مہینہ)
	پیمنٹ رکوانی ہو	600 روپے تک فی چیک
اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	نقل	35 روپے
فنڈ ٹرانسفر	اے ڈی سی/ ڈیجیٹل	ٹرانزیکشنز کی رقم/ تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں
	دیگر	ٹرانزیکشنز کی رقم/ تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں
ڈیجیٹل بینکنگ	انٹرنیٹ بینکنگ کی رکنیت (ایک بار/ سالانہ)	زیرو
	موبائل بینکنگ کی رکنیت (ایک بار/ سالانہ)	زیرو
کلیرنگ	نارل	زیرو
	شہر کے باہر	284 روپے
	اسی دن	284 روپے

* ایم سی بی ویزہ سکلچر ڈیپٹ کارڈ کے چارجز میں چھوٹ دی جائے گی اگر بینک کے ساتھ مجموعی ڈیپازٹ کاسہ ماہی اوسط بیلنس 5 ملین کے مساوی یا اس سے زائد ہو یا بینک کے ساتھ مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپازٹ کاسہ ماہی اوسط بیلنس 2 ملین کے مساوی یا اس سے زائد ہو۔

کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ برائے ڈیپازٹ اکاؤنٹس

مزید جاننے

غیر دعویٰ شدہ جمع رقوم (Unclaimed Deposits): بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 31 کے تحت، اگر کسی بینک یا ڈی ایف آئی (DFI) کے پاس موجود کسی بھی قسم کی مالی ذمہ داری، چاہے وہ مقامی یا غیر ملکی کرنسی میں ہو، کسی ڈپازٹ کی وجہ سے ہو (جس میں تمام اقسام شامل ہیں، بشمول ٹائم اور ڈیمانڈ) یا کسی مالیاتی دستاویز کی صورت میں ہو (جیسے بل آف ایکچیف، پے سلپ، پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، ٹیلی گرافک ٹرانسفر، مینی ٹرانسفر اور بینکرز چیک)، اور وہ رقم حکومت کے نام (سوائے ان دستاویزات کے جو حکومت کے حق میں جاری کی گئی ہوں)، کسی عدالت یا کسی نابالغ کے نام پر نہ ہو، اور اگر اس رقم کے حوالے سے گزشتہ پندرہ سال کے دوران کوئی لین دین نہ ہوا ہو، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ نہ لی گئی ہو اور نہ ہی صارف نے اس کی تصدیق کی ہو، اور مالیاتی دستاویز کی صورت میں اس کی ادائیگی بھی نہ ہوئی ہو، تو ایسی رقم کو غیر دعویٰ شدہ جمع رقوم قرار دیا جائے گا۔ ایسی جمع رقوم متعلقہ بینک سے واپس کلیم کی جاسکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنی قریبی ایم سی بی بینک برانچ سے رابطہ کریں یا ایم سی بی کانٹیکٹ سینٹر 111-000-622 پر کال کریں۔	غیر فعال اکاؤنٹ (Dormant Account): اگر گزشتہ ایک سال کے دوران صارف کی جانب سے کوئی بھی لین دین (ڈیبٹ یا کریڈٹ) یا سرگرمی، مثلاً ایم سی بی موبائل ایپلیکیشن (MCB Live) کے ذریعے لاگ ان، انجام نہیں دی گئی ہو تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال (Dormant) یا ناقابل استعمال (In-Operative) قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اکاؤنٹ کی بحالی تک کسی بھی قسم کی ڈیبٹ ٹرانزیکشن یا رقم نکلوانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکاؤنٹ دوبارہ فعال کروانے کے لیے آپ اپنی قریبی ایم سی بی بینک برانچ کا دورہ کر سکتے ہیں یا MCB Live موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔
اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں: 45 دنوں سے زیادہ حل نہ ہونے والی شکایات کے لیے، آپ بینکنگ محتسب پاکستان، بیکر ٹریٹ 5 ویں منزل، شاہین کپلیکس، ایم آر کیانی روڈ، کراچی کو درخواست لکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون: +9221-99217334-8 فیکس: +9221-99217375، ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk ویب سائٹ: www.bankingmohtasib.gov.pk	آپ کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں؟ ایم سی بی بینک لمیٹڈ، کمپلیٹ ریزولوشن یونٹ، 7 ویں منزل، ایم سی بی ٹاور، I.I. چندریگر روڈ، کراچی یا ایم سی بی سینٹر، چوتھی منزل، ایئر پورٹ ایکسیس روڈ، لاہور ہیلپ لائن: 111-000-622 ای میل: info@mcb.com.pk ویب سائٹ: www.mcb.com.pk سنوائی لنک: https://sunwai.sbp.org.pk/

میں اس کے ایف ایس کو سمجھتا اور مانتا ہوں	کسٹمر کا نام
تاریخ:	منتخب شدہ پراڈکٹ کا نام:
سنگل/جوائنٹ/سروائیور	اکاؤنٹ کا مینڈیٹ:
پتہ:	پتہ:
موبائل نمبر:	رابطہ نمبر:
ای میل ایڈریس	ای میل ایڈریس
دستخط کی توثیق:	کسٹمر کے دستخط